



Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة الفتح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

.1
ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے، صریح (صاف) فیصلہ (فتح)۔

لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

.2
تا (کہ) معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے،

وَيَتَّمَّ نِعْمَةُهُ عَلَيْكَ وَيَمْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ۔

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا أَعْزِيزًا

.3
اور مدد کرے تجھ کو اللہ زبردست مدد۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْبِدَ إِلَيْهِمْ نَعَمَّا مَعَ إِيمَانِهِمْ

.4
وہی ہے جس نے اتارا چین دل میں ایمان والوں کے، کہ اور بڑھے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ۔

.5

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^ج

اور اللہ کو ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

اور اللہ ہے خبردار حکمت والا۔

لِيُقْدِرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا

تا (ک) پہنچائے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو باغوں میں، نیچے بھی ہیں انکے نہریں، سداریں ان میں،

وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمُ^ج

اور اتارے (دور کرے) ان سے ان کی برائیاں۔

وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا

اور یہ ہے اللہ کے ہاں بڑی مراد (کامیابی) ملتی۔

وَيُعَذِّبُ الْمُتَفَقِّينَ وَالْمُتَفَقَّتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ كَتِ الظَّاهِرِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ الْسَّوْءِ^ج

اور تا (ک) عذاب کرے دغ باز مردوں کو اور عورتوں کو، اور شرک والے مردوں کو اور عورتوں کو،

جو اٹکتے (گمان کرتے) ہیں اللہ پر بری اٹکلیں (گمان)،

عَلَيْهِمْ دَاءِرَةً الْسَّوْءِ^{صل}

انہیں پر پڑے پھیر مصیبت کا۔

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ^{صل}

اور غصے ہوا اللہ ان پر، اور ان کو پھٹکارا، اور رکھا ان کے واسطے دوزخ۔

.6

وَسَاءَتْ مَصِيرًا

اور (وہ) بری جگہ پہنچے۔

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اللہ کے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

ہم نے (اے محمد) تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا، اور خوشی اور ڈر سناتا۔

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّزُ مُرْوَةَ وَتُوَقِّرُ وُكْلَةً

تا (کہ) تم لوگ یقین لاوے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اسکی مدد کرو اور اس کا ادب رکھو۔

وَتُسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًاً

اور اسکی پاکی بولو صحن اور شام۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

اور جو لوگ ہاتھ ملاتے (بیعت کرتے) ہیں تجھ سے، وہ ہاتھ ملاتے (بیعت کرتے) ہیں اللہ سے۔

اللہ کا ہاتھ ہے اور ان کے ہاتھ کے۔

.7

.8

.9

.10

فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يُنكِثُ عَلَى نَفْسِهِ

پھر جو کوئی قول توڑے، سو توڑتا ہے اپنے برے کو۔

وَمَنْ أَوْفَى إِيمَانًا عَهْدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

اور جو کوئی پورا کرے جس پر اقرار کیا اللہ سے، دے گا اس کو نیگ (اجر) بڑا۔

سَيُقُولُ لِكُلِ الْمُخْلَقُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلتُنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِرُ لَكُمْ

.11

اب کہیں گے تجھ کو پیچھے رہنے والے گنوار ہم لگے رہ گئے اپنے مالوں میں اور گھروں میں، سو ہمارا گناہ بخششا

يَقُولُونَ بِالْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

کہتے ہیں اپنی زبان سے، جو نہیں ان کے دل میں۔

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا

تو کہہ، کس کا کچھ چلتا ہے (زور) اللہ سے تمہارے واسطے اگر وہ چاہے تم پر تکلیف یا چاہے تم کو فائدہ؟

بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

بلکہ اللہ ہے تمہارے کام سے خبردار۔

بَلْ ظَنَنتُمْ أَنَّ لَنَ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيَهُمْ أَبَدًا

کوئی (ہرگز) نہیں! تم نے خیال کیا، کہ پھر کرنے آئے گار رسول اور مسلمان اپنے گھر کبھی،

وَزِينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ذَنَنَ السَّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا

اور بھلا نظر آیا تمہارے دل میں یہ، اور انکل (گمان) کی تم نے بُری انکلیں (گمان)

اور تم لوگ تھے کہپنے (ہر حال میں ہلاک ہونے) والے۔

.12

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا

اور جو کوئی لقین نہ لائے اللہ پر اور اسکے رسول پر تو ہم نے رکھی ہے منکروں کے واسطے دہکتی آگ۔

وَلِلَّهِ مُلْكُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اللہ کا ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا۔

يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

بخشنے جس کو چاہے، اور مار (عذاب) دے جس کو چاہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا إِذَا رَأَى حِيمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

سَيُقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا أَنْطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمٍ لَتَأْخُذُوهَا ذَرْنَا نَنْتَغُكُمْ

اب کہیں گے پچھے رہ گئے (رہ جانے والے)

جب چلو گے غنیمتیں لینے کو چھوڑو (اجازت دو) ہم چلیں تمہارے ساتھ۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا أَكْلَمَ اللَّهِ

چاہتے ہیں کہ بد لیں اللہ کا کہا (قول)۔

قُلْ لَّهُ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ

تو کہہ ہمارے ساتھ نہ چلو گے، یو نہی کہہ (فرما) دیا اللہ نے پہلے سے۔

فَسَيُقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَا

پھر اب کہیں گے، نہیں تم جلتے (حد کرتے) ہو ہمارے بھلے سے۔

بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

کوئی (ہرگز) نہیں! پروہ سمجھتے نہیں رہے مگر تھوڑا۔

۱۶ ﷺ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَئِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقْتَلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

کہہ دے پچھے رہ گئے گنواروں کو، آگے (عنقریب) تم کو بلائیں گے ایک لوگوں پر،
بڑے سخت لڑدیے (زور آور)، تم ان سے لڑو گے، یا وہ مسلمان ہوں گے۔

۱۷ ﷺ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا

پھر اگر حکم مانو گے، دے گا تم کو اللہ نیگ (اجر) اچھا۔

وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلٍ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے پلٹ گئے پہلی بار، مار (عذاب) دے تم کو ایک دکھ کی مار (عذاب)۔

۱۸ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَمِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَاجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِيضِ حَرَجٌ

اندھے پر تکلیف نہیں (کہ نہ شریک ہوں جنگ میں) اور نہ لنگڑے پر تکلیف (حرج)، اور نہ بیمار پر تکلیف۔

۱۹ ﷺ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخَلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ

اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا اس کو داخل کرے گا باغوں میں، جن کے نیچے بہتی ندیاں۔

۲۰ ﷺ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا

اور جو کوئی پلٹ جائے، اس کو مار دکھ کی مار (عذاب)۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الْشَّجَرَةِ

اللہ خوش ہو ایمان والوں سے، جب ہاتھ ملانے (بیعت کرنے) لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے،

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّسَكِينَةَ عَلَيْهِمْ

پھر (اللہ نے) جاناجوان کے جی میں تھا، پھر اُتارا ان پر چین،

وَأَثَبْهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا

اور انعام دی ان کو ایک فتح نزدیک،

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا

اور بہت غنیمتیں، جوان کو لیں گے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔

وَعَدَ كُمْ أَلَّهُمَّ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا

وعدہ دیا ہے تم کو اللہ نے بہت غنیمتیں کا، تم ان کو لو گے،

فَعَجَلَ لِكُمْ هَذِهِ وَكَفَ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

سو شتاب ملا (فوری فتح) دی تم کو یہ، اور روکے لو گوں کے ہاتھ تم سے۔

وَلَتَكُونَ إِلَيْهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

اور تا (کہ) ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے، اور چلائے تم کو سیدھی راہ۔

.21

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا

اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی، وہ اللہ کے قابو میں ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

اور ہے اللہ ہر چیز کر سکتا۔

.22

وَلَوْ قَتَلْكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا الْأَذْبَرُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

اور اگر لڑتے تم سے کافر، تو پھر تے پیٹھ، پھر نہ پائیں گے کوئی حمایتی نہ مدد گار۔

.23

سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ

رسم (سنۃ) پڑی اللہ کی، جو چلی آتی ہے پہلے سے۔

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِيلًا

اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی رسم (سنۃ) بدلتی۔

.24

وَهُوَ الَّذِي كَفَرَ أَيُّدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيُّدِيْكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ

اور وہی ہے جس نے روک رکھے ان کے ہاتھ تم سے، اور تمہارے ہاتھ ان سے، بیچ شہر کے کے،

پیچھے اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیئے وہ۔

وَكَانَ اللَّهُ بِهِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

اور ہے اللہ جو کرتے ہو دیکھتا۔

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّقُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَهْدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ حَلَلَهُ^ج

وہی ہیں جنہوں نے انکار کیا اور روکا تم کو ادب والی مسجد سے اور نیاز کی قربانی کو،
بند پڑی (روکا) نہ پہنچے اپنی جگہ تک۔

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ

اور اگر نہ ہوتے کتنے مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں،

أَن تَظُهُرُهُمْ فَتُصْبِيَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَضاً بِغَيْرِ عِلْمٍ^{صل}

یہ خطرہ کہ ان کو پیس ڈالتے، پھر تم پر خرابی پڑتی ہے خبری سے۔

لِيَدُ خَلَالَ اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ^ج

کہ اللہ کو داخل کرنا اپنی مہر (رحمت) میں جس کو چاہے۔

لَوْ تَزَيَّلُ الْعَذَّابُ بَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْنَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے، تو آفت ڈالتے ہم منکروں کو ذکر کی مار (عذاب)۔

إِذْ جَعَلَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحُمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجُهَلِيَّةِ

جب رکھی منکروں نے اپنے دل میں ٹیک (ضد)، نادانی کی ضد،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلَزَمَهُمْ كَلِمَةَ الْتَّقْوَىٰ

پھر اُتار اللہ نے اپنی طرف کا چین اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر

اور لگے (پابند) رکھا ان کو ادب (تقوی) کی بات پر،

وَكَانُوا أَحَقّ بِهَا وَأَهْلَهَا

اور یہی تھے اس کے لائق، اور اس کام کے۔

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

اور رہے (ہے) اللہ ہر چیز سے خبردار۔

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ أَنْرُءِيَا بِالْحُبُّ

اللہ نے سچ دکھایا ہے اپنے رسول کو خواب۔

لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ مُحَلِّقِينَ رُمْعُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ

تحقیق (ضرور) تم داخل ہو رہے گے ادب والی مسجد (مسجد الحرام) میں، اگر اللہ نے چاہا چین سے،

بال منڈتے اپنے سروں کے، اور کرتے، بے خطرہ۔

فَعِلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ ذُوِنَّ ذِلْكَ فَتَحَّاقِرِيًّا

پھر جانا جو تم نہیں جانتے، پھر ٹھہر ادی اس سے ورنے (قریب) یک قش نزدیک۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحُقْقِ يُظْهِرُهُ عَلَى الْأَدِيْنِ كُلِّهِ

وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ پر اور سچے دین پر کہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے۔

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

اور بس ہے اللہ حق ثابت کرنے والا۔

لَهُمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے۔

.27

.28

.29

وَاللّٰهُمَّ مَعْهُ أَشِدَّ أَعْلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْتِهِمْ

اور جواس کے ساتھ ہیں، زور اور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں،

تَرَاهُمْ مِنْ كَعَاسِجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا

تو دیکھے ان کو رکوع میں اور سجدے میں، ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی۔

سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ

بانا ان کا (پہچان انکی) ان کے منه (پیشانی) پر ہے سجدے کے اثر سے۔

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْتَّوْرَةِ

یہ کہاوت (مثال) ہے ان کی توریت میں،

وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْهُرًا فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوْسَى عَلَى سُوقِهِ يُعِجبُ الْزُّرَاعَ

اور کہاوت (مثال) ان کی انجلی میں، (اس طرح) جیسے کھتی نے نکلا اپنا پٹھا (کونبل)، پھر اسکی کمر مضبوط کی،

پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہوا اپنے نال پر، خوش لگتا کھتی والوں کو

لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

تا (کہ) جلائے ان سے جی کافروں کا،

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ إِمْتُو أَوْعَمْلُوا أَصَدِلَكِتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وعدہ دیا ہے اللہ نے، انہیں سے جو یقین لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام، معافی کا اور بڑے نیگ (اج) کا۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u_com@yahoo.com